

12 اپریل 2018

سٹی آف برامپٹن بسکین سیزن 2018 کے لیے فنکاروں کی تلاش میں ہے

درخواست وصول کی جا رہی ہیں

برامپٹن، آن - سٹی آف برامپٹن گلیوں میں فن کا مظاہرہ کرنے والے تمام فنکاروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بسکین سیزن 2018 کے لیے درخواست دیں اور پورے شہر کے عوامی مقامات میں رنگ بکھیرنے میں مدد کریں۔

دلچسپی رکھنے والے فنکاروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ [سٹی کی رینما ہدایات](#) کا جائزہ لیں اور ایک مکمل شدہ [درخواست فارم](#) کے ہمراہ اپنے فن کی ایک مختصر آڈیو یا ویڈیو culture@brampton.ca پر بھیجیں یا برامپٹن سٹی ہال میں اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس میں خود تشریف لا کر جمع کروادیں۔

درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 اپریل ہے؛ کامیاب درخواست دہندگان کو مئی کے مہینے کے آغاز میں مطلع کر دیا جائے گا۔ پرمٹ 1 جون تک جاری کر دیے جائیں گے جو 1 جون تا 30 نومبر 2018 تک سٹی کے بسکین سیزن کے دوران کارآمد رہیں گے۔

درخواست دہندہ کے لیے رینما ہدایات:

- 16 سال یا اس سے زیادہ عمر ہونا لازمی ہے
- فی گروپ فنکاروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 3 ہے
- فن کے مظاہروں کے دوران مطلوبہ سازوسامان کا بندوبست خود کرنا ہو گا
- فن کے تمام مظاہرے لازمی طور پر پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے قابل ہونے چاہیں

اس سال نیا کام یہ ہو گا کہ اہل فنکاروں کو منتخب کردہ ٹرانزٹ ٹرمینلز پر فن کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی جائے گی تاکہ ان کے فن سے شائقین اپنے معمولات کے دوران لطف اندوز ہو سکیں۔ فنکار پورے موسم گرما کے دوران شہر کی پبلک مارکیٹس کے ماحول کو چار چاند لگانے کے لیے اپنے فن کے مظاہرے کرتے رہیں گے۔

برامپٹن میں بسکین کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca/culture

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتی، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654